

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 وَذَرْنَا الْفِرَاقَ بَيْنَ الْبَنَاتِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَرَحْمَتِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن پاک کی معنوی تحریف اور فرقہ وادیت کی نحوست سے محفوظ اُردو ترجمہ



عربی لغت کے عین مطابق بیک وقت لفظی اور باحاورہ آسان ترین اُردو ترجمہ

ترجمہ
 پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ضیاء المشرق پبلیکیشنز
 لاہور - کراچی
 پاکستان

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

ہرگز نہ پاسکو گے تم کامل نیکو (کارتہ) جب تک نہ خرچ کرو (راہ خدا میں) ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي

بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے - سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی

إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اسرائیل کے لئے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ

تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَإِن لَّوْهَانَ كُنْتُمْ

نازل کی کئی تورات - آپ فرماؤ: لاؤ تورات پھر پڑھو اسے اگر تم

صَادِقِينَ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ

سچے ہو - پس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اس کے بعد

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا

تو وہی ظالم ہیں - آپ کہہ دیجئے سچ فرمایا ہے اللہ نے - پس پیروی کرو تم

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ أَوَّلَ

ملت ابراہیم کی جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھی، اور (بالکل) نہ تھی وہ شرک کرنے والوں سے - بے شک پہلا

بَيْتٍ وَّضَعَ لِلنَّاسِ لِدَلِيلِ رَبِّكَ ۚ مُبْرَكًا ۚ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾

(عبادت) خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لئے وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا ہدایت (کا سرچشمہ) ہے سب جہانوں کے لئے -

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ

اس میں روشن نشانیاں ہیں (ان میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے (ہر خطرہ سے) محفوظ،

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَ

اور اللہ کے لئے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، اور

مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

جو شخص (اس کے باوجود) انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے - آپ فرمائیے اے اہل کتاب!

لَمْ تَكْفُرُوا ۚ بآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾

کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو -

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِنِّ افْن

آپ فرمائیے: اے اہل کتاب! تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لاچکا

تَبْعُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾

تم چاہتے ہو کہ اس راہ (راست) کو ٹیڑھا بنا دو حالانکہ تم خود (اس کی راتنی کے) گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبران (کرتو توں) سے جو تم کرتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

اے ایمان والو! اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے (تو نتیجہ ہوگا کہ)

الْكِتَابِ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۗ ۝۱۰۰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ

لونا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم (اب پھر) کفر کرنے لگو

وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ ۗ وَمَن يَعْصِمْ

حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے

بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۗ ۝۱۰۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ (کے دامن) کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ اے ایمان والو!

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا سَلَّمْتُمْ ۗ ۝۱۰۲

ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا اور (خبردار) نہ مرنے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور

اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ

مضبوطی سے پکڑلو اللہ کی رسی سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت

اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم

(جو اس نے) تم پر فرمائی جب کہ تم تھے (آپس میں) دشمن پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم

اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم (کھڑے) تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تو اس نے بچالیا تمہیں

مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ ۝۱۰۳ وَلَتَكُنَّ

اس (میں گرنے) سے، یونہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ ضرور ہونی چاہئے

مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

تم میں سے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور علم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے

عَنِ السُّكْرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

بدی سے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں - اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح

تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ

جوزقوں میں شکے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آچلی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، ان لوگوں کے لئے

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا

عذاب ہے بہت بڑا، اس دن (جبکہ) روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو

الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِنَا فَانْفَرُوا

سیاہ رو ہوں گے - (انہیں کہا جائے گا) کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد تو اب چکھو

الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۰۵﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

عذاب (کی اذیتیں) بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے - اور وہ (خوش نصیب) لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے

فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰۶﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

تو وہ رحمت الہی (کے سائے) میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے - یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ وَبِاللَّهِ مَا

آپ کو ٹھیک ٹھیک ، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر - اور اللہ ہی

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْاُمُورَ ﴿۱۰۸﴾

کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام -

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ وَ

ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں (کی ہدایت و بھلائی) کے لئے تم علم دیتے ہو نیکی کا اور

تَنْهَوْنَ عَنِ السُّكْرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب

لَكَانَ خَيْرًا لَّهِمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَكَثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۰۹﴾

تو یہ بہتر ہوتا ان کے لئے، بعض ان میں سے مؤمن ہیں اور زیادہ ان میں سے نافرمان ہیں -

لَنْ يَصُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى ط وَ اِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمْ الْاَدْبَارَ ثُمَّ

(کچھ) نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے ستانے کے، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں (اور بھاگ جائیں گے) - پھر

لَا يُنصِرُونَ ۱۱۱ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا

ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت (دوسوئی) جہاں کہیں یہ پائے گئے بجز اس کے کہ

يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَيُغَضِبُ مِنَ

اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے (نہیں پناہ مل جائے) اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب

اللَّهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۱۱۲ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفَرُونَ

الہی کے اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی، یہ اس لئے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے

بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۱۱۳ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا

اللہ کی آیتوں سے اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق، یہ (بے باکی) اس لئے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۱۱۴ لَيْسُوا سَوَاءً ۱۱۵ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ

اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ سب یکساں نہیں، اہل کتاب سے ایک گروہ

قَائِمَةٌ يُتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۱۱۶

حق پر قائم ہے یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔

يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ

الصالحين ۱۱۷ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

نیوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کا خیر کا، اور اللہ جاننے والا ہے

بِالْمُتَّقِينَ ۱۱۸ إِنَّ الدِّينَ كُفْرٌ وَالنُّعْزَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

پرہیزگاروں کو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچائیں گے انہیں ان کے مال

وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

اور نہ ان کی اولاد اللہ (کے عذاب) سے ذرہ بھر، اور وہ دوزخی ہیں، وہ

فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱۹ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں ایسی ہے

كُنْثِل رِيحٍ فِيهَا صُرَّامَاتٌ حَرَّتْ قَوْمًا ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ

جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو (اور) لگے وہ ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے تم کیا ہوا اپنے نفسوں پر

فَاَهْلَكْتَهُمْ وَظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ يَا أَيُّهَا

پھر فنا کرے اس کھیت کو، نہیں تم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے سین وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

ایمان والو! نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو وہ کسر نہ اٹھا رہیں گے تمہیں

خَبَالًا وَلَا مَاعِنْتُمْ قَدْ بَدَاتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَقْوَامِهِمْ

خرابی پہنچانے میں، وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے مومنوں (یعنی زبانوں) سے

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ

اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے، ہم نے صاف بیان کر دیں تمہارے لئے اپنی آیتیں اگر تم

تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ

سمجھ دار ہو - سنو! تم تو وہ (پاک دل) ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ (ذرا) محبت نہیں کرتے تم سے اور مانتے ہو تم

بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقَوْمُ قَالَُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا

سب کتابوں کو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو چباتے ہیں

عَلَيْكُمُ الْآثَامَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَوْتُوا بَغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ

تم پر انگلیاں غصہ سے، (اے حبیب!) آپ فرمائیے مرجاؤ اپنے غصہ (کی آگ میں جل کر)، یقیناً اللہ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾ إِنْ تَسْسَكُمُ حَسَنَةٌ سَأَوْهُمْ وَإِنْ

خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا - (ان کا حال تو یہ ہے کہ) اگر پیچھے تمہیں کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے انہیں، اور اگر

تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ

پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو (بڑے) خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں

كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَإِذْ عَدَوْتَ

ان کا فریب کچھ بھی، بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں (اس کا) احاطہ کئے ہوئے ہے اور یاد کرو (لے محبوب!) جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ

مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

اپنے گھروں سے (اور میدان احد میں) بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لئے، اور اللہ سب کچھ سننے والا

۱۱۷

عَلَيْكُمْ ۱۳۱) اِذْ هَمَّتْ طَافِقَتِنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْسَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا

جاننے والا ہے ، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مددگار تھا ،

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۳۲) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِدَلِّ

(اس لئے اس نے اس لغزش سے بچالیا) اور صرف اللہ پر توکل کرنا چاہئے مومنوں کو - اویسے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں

وَأَنْتُمْ آذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۱۳۳) اِذْ تَقُولُ

حالانکہ تم بالکل کمزور تھے ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم (اس بروقت امداد کا) شکر ادا کرو، (عجب ہمائی گزری تھی) جب آپ فرماتے تھے

لِلْمُؤْمِنِينَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ

مومنوں سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا پروردگار تین ہزار

السَّلِيكَةِ مُنْزَلِينَ ۱۳۴) بَلَى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنَ

فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں - ہاں کافی ہے بشرطیکہ تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور (اگر) آدمیوں کفار تم

فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ السَّلِيكَةِ

پر تیزی سے اسی وقت تو مدد کرے گا تمہاری تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے جو

مُسُوْمِيْنَ ۱۳۵) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشْرًا لَّكُمْ وَلِتُطْمَئِنُّ

نشان والے ہیں - اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لئے اور تاکہ مطمئن ہو جائیں

قُلُوْبِكُمْ بِهٖ ۱۳۶) وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۱۳۷)

تمہارے دل اس سے ، اور (حقیقت تو یہ ہے) کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب (اور) حکمت والا ہے

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ

(یہ مدد اس لئے تھی) تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر -

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعَذِّبَهُمْ

نہیں ہے آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو عذاب دے انہیں

فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ۱۳۸) وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

پس بے شک وہ ظالم ہیں - اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ،

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ۱۳۹) وَاللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۴۰) ع

بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے ، اور اللہ بہت بخشنے والا ، تم فرمانے والا ہے -

۱۳۱

۱۳۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ سود دوگنا چوگنا کر کے اور

اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ

ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے

لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَ

کافروں کے لئے۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول (کریم) کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور

سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور (دوڑو) جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور

الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

زمین جتنی ہے جو تیار کی گئی ہے یرہیزگاروں کے لئے، وہ (یرہیزگار) جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی

وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ

اور تنگ دہتی میں اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ

اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا

ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ وَمَنْ

ظلم کریں اپنے آپ پر (توفوراً) ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور کون

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ

يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ

وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ (نیک بخت) ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے اور جنت

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۶﴾

رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں، کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

گزر چکے ہیں تم سے پہلے (قوموں کے عروج و زوال کے) قاعدے پس سیر کرو زمین میں اور (اپنی آنکھوں سے) دیکھو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۳۷﴾ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى

کہ کیسا انجام ہوا (دعوت حق کو) جھٹلانے والوں کا - یہ ایک بیان ہے لوگوں (کے سمجھانے) کے لئے اور ہدایت

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے - اور نہ (تو) ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تمہیں سر بلند ہوگے

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ

اگر تم سچے مؤمن ہو - (احد میں) اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو (بدر میں) لگ چکی ہے (تمہاری دشمن) قوم کو بھی

قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ

چوٹ ایسی ہی ، اور یہ (ہارجیت کے) دن ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں ، اور یہاں لئے لڑکھیے لے اللہ تعالیٰ

الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾

ان کو جو ایمان لائے اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید ، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو ،

وَلِيَسْحَبَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَحِقَّ الْكُفْرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ

اور اس لئے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو - کیا تم گمان رکھتے ہو

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَسَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَ

کہ (یونہی) داخل ہو جاؤ گے جنت میں حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے اور

يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

دیکھا ہی نہیں (آزمائش میں) صبر کرنے والوں کو؟ اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم اس سے

تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

ملاقات کرو سواب دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم (آنکھوں سے) مشاہدہ کر رہے ہو - اور نہیں محمد (مصطفیٰ) مگر (اللہ کے) رسول ،

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول ، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیئے جائیں پھر جاؤ گے تم

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَصَرَ اللَّهُ

اٹکے پاؤں (دین اسلام سے) ، اور جو پھرتا ہے اٹکے پاؤں تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا

شَيْئًا وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۳﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ

کچھ بھی ، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو - اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص

۱۳۹

6B

تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا

مرے بغیر اللہ کی اجازت کے لکھا ہوا ہے (موت کا) مقرر وقت، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ

نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَجْزَى

ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے

الشَّكِرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا

(اپنے) شکر گزار بندوں کو۔ اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، سونہ

وَهُنَالِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

ہمت ہماری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچیں انہیں اللہ کی راہ میں اور نہ کمزور ہوئے اور نہ انہوں نے ہار مانی،

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

اور اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے (تکلیفوں میں) صبر کرنے والوں سے اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب!

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أقدامَنَا وَانصُرْنَا

بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کیں ہم نے اپنے کام میں اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کو

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٣٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ

قوم کفار پر - تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب (یعنی کامیابی) اور عمدہ

ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ثواب آخرت کا (یعنی تعمیرِ حنت اور لذتِ وصل)، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے - اے ایمان والو!

إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُوا كُفْرًا بِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

اگر بیروی کرو گے تم کافروں کی تو وہ پھیر دیں گے تمہیں اٹلے پاؤں (کفر کی طرف) تو تم لوٹو گے

خَسِرِينَ ﴿١٣٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٤٠﴾ سَنُلْقِي فِي

نقصان اٹھاتے ہوئے - بلکہ اللہ حامی ہے تمہارا، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ ابھی ہم ڈال دیں گے

قُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ

کافروں کے دلوں میں رعب میں رعب اس لئے کہ انہوں نے شریک بنالیا اللہ کے ساتھ اس کو جس کے لئے نہیں اتاری اللہ نے

سُلْطَانًا وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَيَسُّ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٤١﴾ وَلَقَدْ

کوئی دلیل، اور ان کا ٹھکانا آتش (جہنم) ہے، اور بہت بری جگہ ہے ظالموں کی - اور بے شک

صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِأَذْنٍ حَتَّىٰ إِذَا فَتَلْتُمْ

سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ جبکہ تم قتل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے

وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ فَأُخِجْتُمْ

اور جھگڑنے لگے (رسول کے) حکم کے بارے میں اور نافرمانی کی تم نے اس کے بعد کہ اللہ نے دکھادیا تھا تمہیں جو تم پسند کرتے تھے،

مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ

بعض تم میں سے طلب گار ہیں دنیا کے اور بعض تم میں سے طلب گار ہیں آخرت کے، پھر پیچھے ہٹادیا تمہیں ان کے

عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَىٰ

توابع سے تاکہ آزمائے تمہیں، اور بیشک اس نے معاف فرمادیا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٦﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا تَتَوَّنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

مومنوں پر - یاد کرو جب دور بھاگے جارہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے کسی کو اور رسول کریم

يَدْعُوكُمْ فِي آخِرِكُمْ فَأَنَابَكُمْ غَنِيًّا لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا

بلا رہے تھے تمہیں پیچھے سے پس اللہ نے پہنچایا تمہیں غم کے بدلے غم تاکہ تم نہ غمگین ہو اس چیز پر جو

فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٧﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ

کھوئی ہے تم سے اور نہ اس مصیبت پر جو پہنچی ہے تمہیں، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے

عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَ

تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت (یعنی) غنودگی جو چھاری تھی ایک گروہ پر تم میں سے اور

طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ

ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا (صرف) اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلاوجہ

الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ

عہد جاہلیت کی بدگمانی، کہتے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے، آپ فرمائیے

الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ

اختیار تو سارا اللہ کا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، کہتے ہیں (پنے دلوں میں)

لَوْ كَان لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي

اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں (اس بے دردی سے)، آپ فرمائیے کہ اگر تم (بیٹھے) ہوتے

بِئُوتِكُمْ لِبَرِّزِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے (وہاں سے) وہ لوگ، لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف، (یہ سارے مصائب اس لئے تھے)

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَسَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ

تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں (چھپا) تھا اور صاف کر دے جو (میل پھیل) تمہارے دلوں میں تھا، اور

اللَّهُ عَلَيْهِ يَذَاتُ الصُّدُورِ ۝۱۵۲۱ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَىٰ

اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا۔ بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے

الْجَمْعِ ۚ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ

دونوں لشکر تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے، اور بے شک (اب)

عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۵۲۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

معاف فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو! نہ

تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ

ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقہ میں

أَوْ كَانُوا عَدُوًّا لَكُمْ فَانظُرُوا مَا تَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ فِيمَا تَعْمَلُونَ

ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بتائے اللہ تعالیٰ

ذَلِكَ حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

اس (خیال باطل) کو حسرت (کا باعث) ان کے دلوں میں، اور (درحقیقت) اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۵۲۳ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ مَغْفِرَةً

تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی اگر تم قتل کئے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو اللہ کی بخشش

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝۱۵۲۴ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ

اور رحمت (جو تمہیں نصیب ہوگی) بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے

لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ۝۱۵۲۵ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ

تو اللہ کے حضور جمع کئے جاؤ گے۔ پس (صرف) اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لئے اور اگر

كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

ہوتے آپ تند مزاج سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے تو آپ درگزر فرمائیے ان سے

۱۵۲۱

وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

اور بخشش طلب کیجئے ان کے لئے اور صلاح مشورہ کیجئے ان سے اس کام میں، اور جب آپ ارادہ کر لیں (کسی بات کا) تو پھر توکل

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۵۹﴾

کرو اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اگر مد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی

غَالِبٌ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُ لَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ

غالب نہیں آسکتا تم پر، اور اگر وہ (ساتھ) چھوڑ دے تمہارا تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری

بَعْدَهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۶۰﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ

اس کے بعد، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔ اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان

أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِآيَاتٍ مِمَّا عَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى

کہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا (اپنے ہمراہ) خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۱﴾ أَمِنْ أَتْبَعُ رِضْوَانٍ

جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی

اللَّهُ كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيدَ ﴿۶۲﴾

اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گیا ہے اللہ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانہ بہم ہے، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۳﴾ لَقَدْ مَنَّ

لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً بڑا احسان فرمایا

اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہیں میں سے

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ

پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت،

إِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۶۴﴾ أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ

اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی کراہی میں تھے۔ کیا جب پچی تمہیں

مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِيهَا قُلْتُمْ أَتَىٰ هَذَا قُلُوبَنَا هُوَ مِن

کچھ مصیبت حالانکہ تم پہنچا چکے ہو (دشمن کو) اس سے دگنی تو تم کہہ اٹھے کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت؟ فرمائے! یہ تمہاری

عِنْدَ انْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۴۵﴾ وَمَا اَصَابَكُمْ

طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ مصیبت جو پہنچی تھی تمہیں

يَوْمَ التَّقِيٰ الْجَمْعِ فَاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ وَلِيَعْلَمَ

اس روز جب مقابلہ کو نکلے تھے دونوں لشکر تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی اور (مقصود یہ تھا کہ) دکھالے

الذّٰيْنَ نَافَقُوْا ۗ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور دکھالے جو نفاق کرتے تھے اور کہا گیا ان سے آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا

ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ لَعَلَّمُوْا قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ

بچاؤ کرو (اپنے شہر کا)، بولے اگر ہم جاننے کہ جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، وہ کفر سے اس روز

اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ يَا قَوْمِ اِهْمُمْ قَالِيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ

زیادہ قریب تھے بہ نسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے (ایسی باتیں) جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں،

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ الذّٰيْنَ قَالُوْا الْاِخْوَانِيْمَ وَقَعَدُوْا

اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود (گھر) بیٹھے تھے کہ

لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَاذْرُوْا عَنّٰنِ الْاَنْفُسِكُمْ الْمَوْتِ اِنَّ

اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ فرمائیے: ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الذّٰيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ

تم سچے ہو۔ اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں

اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيٰٓءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۴۹﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا

وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس (اور) رزق دیئے جاتے ہیں، شاد ہیں ان (نعمتوں) سے جو

اَتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالذّٰيْنَ لَمْ يَكْفُرُوْا بِهٖمْ

عنایت فرمائی ہیں انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آئے ان سے

مِّنْ خَلْفِهِمْ ۗ الْاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۵۰﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ

ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوش ہو رہے ہیں

بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضِلٍ ۗ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر اور (اس پر) کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔

مع

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور رسول کی دعوت پر اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں (گہرا) زخم،

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴۷﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ

ان کے لئے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقویٰ اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہا انہیں

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

لوگوں نے کہ بلاشبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لئے (بڑا سامان اور لشکر) سو ڈرو ان سے تو (اس دشمنی نے) بڑھادیا ان کے (جوش) ایمان کو

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۴۸﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ

اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ (ان کے عزائم) توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ) واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام

وَفَضْلٍ لَمْ يَسْأَلْهُمْ سَوْءًا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ

اور فضل کے ساتھ نہ چھوڑا ان کو کسی برائی نے اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی، اور اللہ تعالیٰ

ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۴۹﴾ إِنَّكَ ذَا لِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا

صاحب فضل عظیم ہے۔ یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا ہے (تمہیں) اپنے دوستوں سے پس نہ

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۰﴾ وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ

ڈرو ان سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مؤمن ہو۔ اور (اے جان عالم) نہ غمزہ کریں آپ کو جو

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا لِلَّهِ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ

جلدی سے کفر میں داخل ہوئے ہیں، بے شک یہ لوگ نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ

أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵۱﴾

نہ رکھے ان کے لئے ذرا حصہ آخرت (کی نعمتوں) سے، اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے، بے شک

الَّذِينَ اسْتَرَوْا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُوا لِلَّهِ شَيْئًا وَلَهُمْ

جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے عوض میں ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان کے لئے

عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۵۲﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا حُمِّلُوا

درد ناک عذاب ہے۔ اور نہ خیال کریں جو کفر کر رہے ہیں کہ ہم جو مہلت دے رہے ہیں انہیں یہ بہتر ہے ان کے لئے،

أَنَّمَا حُمِّلُوا لَهُمُ لِيُذَادُوا وَإِنَّ لِلنَّاسِ عَذَابٌ مِمَّنْ لَمْ يَلِدْ

صرف اس لئے ہم تو انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادہ کر لیں گناہ، اور ان کے لئے عذاب ہے ذلیل و خوار کرنے والا نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے

الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہو جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک سے ،

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر البتہ اللہ (غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے

مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا

اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور

تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۴۹ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا

تقوی اختیار کیا تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے - اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو

أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ

دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لئے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لئے طوق پہنایا جائے گا

مَا يَبْخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن ، اور اللہ کے لئے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی ، اور

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۵۰ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا

اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے - بے شک سنا اللہ نے قول ان (گستاخوں) کا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ

کہ اللہ مفلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں، ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا نیز قتل کرنا

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۱۵۱ ذَٰلِكَ

ان کا انبیاء کو ناحق (بھی لکھ لیا جائے گا) اور ہم کہیں گے کہ (اب) چکھو آگ کے عذاب (کامزہ) - یہ

بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۱۵۲

بدل ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر - یہ وہ لوگ ہیں

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنَ لِرَسُوْلِ حَتّٰى يَأْتِيَنَا

جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ (تعالیٰ) نے اقرار لیا ہے ہم سے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّن قَبْلِي

ہمارے پاس ایک قربانی کھالے اس کو آگ ، آپ فرمائیے: آپکے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے بھی

بِالْبَيِّنَاتِ وَيَا لِدُنَىٰ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۲﴾

دلیلوں کے ساتھ اور اس (مجرم) کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو تو کیوں قتل کیا تھا تم نے انہیں اگر تم سچے ہو۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُ وَيَا لِبَيِّنَاتٍ

اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے جو لائے تھے معجزات

وَالذِّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور صحیفے اور روشن کتاب - ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری

تُؤَفَّقُونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، پس جو شخص بچالیا گیا آتش (دوزخ) سے اور داخل کیا گیا

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَاعٌ الْعُرُورِ ﴿۱۸۴﴾ لَتَبْلُوكُنَّ

جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر سازو سامان دھوکہ میں ڈالنے والا - یقیناً تم

فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں دی گئی کتاب

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا

تم سے پہلے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذیت دینے والی بہت باتیں، اور اگر تم (ان دل آزاریوں پر) صبر کرو

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۵﴾ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے - اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ

ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا اسے لوگوں سے اور نہ چھپانا اس کو تو (اللہ) انہوں نے چھپک دیا اس وعدہ کو اپنی

وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ شَتَا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۶﴾

پشتوں کے پیچھے اور انہوں نے خرید لی اس کے عوض تھوڑی سی قیمت، سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْسَدُوا

ہرگز آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی کارستانیوں پر اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے

بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ سِمْفَارَةً مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ

ایسے کاموں سے جو انہوں نے کئے ہی نہیں تو ان کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ امن میں ہیں عذاب سے، ان کے لئے ہی

عَنْ أَبِي إِلِيْمٍ ۱۸۸ وَبِاللّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى

تو درد ناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۱۸۹ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ

ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور

اِخْتِلَافِ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّلْاُولٰٓئِ الَّذِيْنَ ۱۹۰

رات اور دن کے بدلنے رہنے میں (بڑی) نشانیاں ہیں اہل عقل کے لئے، وہ عقل مند جو

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّفَعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ

یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، (اور تسلیم کرتے ہیں) اے ہمارے مالک! نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ (کارخانہ حیات) بے کار،

سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۹۱ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ

پاک ہے تو (ہر عیب سے) بچالے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب! بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں

فَقَدْ اَحْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۱۹۲ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا

تو رسوا کر دیا تو نے اسے اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب! بے شک سنا ہم نے

مُنَادِيًا يُنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاَمَّا حٰجِبُ رَبَّنَا

منادی کرنے والے کو کہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف (اور کہتا تھا) کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے مالک!

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۱۹۳ رَبَّنَا

پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں اور (اپنے کرم سے) موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب!

وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا نَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّكَ

عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو

لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ ۱۹۴ فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا اُضِيْعُ

وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قبول فرمایا ان کی التجا ان کے پروردگار نے (اور فرمایا) کہ میں ضائع نہیں کرتا عمل

عَمَلٍ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اَنْتِيْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

کسی عمل کرنے والے کا تم سے خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا جزء ہے بعض کی

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي

تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے وطن سے اور ستائے گئے میری راہ میں

وَقَتَلُوا وَقَاتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ

اور (دین کے لئے) لڑے اور مارے گئے تو ضرور میں مٹا دوں گا ان (کے ناممعل) سے ان کے گناہ اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَّابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ

بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں ، (یہ) جزا ہے (ان کے اعمال حسنی) اللہ کے ہاں ، اور اللہ ہی کے پاس

حَسَنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْرِبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۝

بہترین ثواب ہے - (اے سننے والے!) نہ دھوکہ میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں -

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۝ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسُ السَّيِّئَاتِ ۝ لَكِن

یہ لطف اندوزی تھوڑی مدت کے لئے ہے - پھر ان کا ٹھکانا جہنم ہے ، اور یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے - لیکن

الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وہ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہوں گے رواں ہوں گی ان کے نیچے ندیاں

خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَاءِ ۝

(وہ) ہمیشہ رہیں گے ان میں یہ تو مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے ، اور جو (ابدی نعمتیں) اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکیوں کے لئے -

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

اور بے شک بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہاری طرف

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشَعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا

اور جو اتارا گیا ان کی طرف عاجزی (اور نیا زمندی) کرنے والے ہیں اللہ کے لئے نہیں سودا کرتے اللہ کی آیتوں کا

قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

حقیقت پر ، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے ، بیشک اللہ تعالیٰ بہت جلد

الْحِسَابِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

حساب لینے والا ہے - اے ایمان والو! صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کمر بستہ رہو (خدمت دین کے لئے) -

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اور (ہمیشہ) اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو جاؤ -

سُورَةُ النِّسَاءِ
۴ مَكَدِّيَّةٌ ۹۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيَاتُهَا
۲۳
رُكُوعَاتُهَا
۱۷۶

سورۃ النساء مدنی ۱۷۶ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیتیں ۲۳ رکوع

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا

اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں (کی تعداد میں) اور ڈرو

اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ مانگتے ہو ایک دوسرے سے (اپنے حقوق) جس کو رابطے سے اور (ڈرو) رحموں (کے قطع کرنے سے)، بیشک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت

رَقِيبًا ۱ وَاتُّوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِحْيَاءَ بِالطَّيِّبِ

نگران ہے۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ بدلو (اپنی) ردی چیز کو (ان کی) عمدہ چیز سے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۲

اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملہ میں (توان سے نکاح نہ کرو) اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں

مِّنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

(ان کے علاوہ دوسری) عورتوں سے دو دو تین تین اور چار چار، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعْوُوا ۳ وَ

تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ فریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ اور

اتُّوا النِّسَاءَ صِدْقِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

دیا کرو (اپنی) عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس سے

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۴ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي

خوشدلی سے تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں

جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری (زندگی کے) لئے سہارا اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۵ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ

بھلائی کی بات - اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح (کی عمر) کو ،

فَإِنِ انْتَهَمْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا

پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال اور نہ

تَأْكُلُوها سِرًّا قَائِدًا إِنَّ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

کھاؤ انہیں فضول خرچی سے اور جلد کی جلد کی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ، اور جو سرپرست غنی ہو تو

فَلَيْسَتْعَفْفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِذَا

اسے چاہئے کہ (یتیموں کے مال سے) پرہیز کرے ، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھالے مناسب مقدار سے ، پھر جب

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهَمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ

حَسِيبًا ۙ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ

حساب لینے والا۔ مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اس ترکہ سے خواہ تھوڑا ہو

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

یا زیادہ ، یہ حصہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مقرر ہے۔ اور جب حاضر ہوں (ورثہ کی) تقسیم کے وقت (غیوراث) رشتہ دار،

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

یتیم بچے اور مسکین تو دو انہیں بھی اس سے اور کہو ان سے اچھی

مَّعْرُوفًا ۗ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ

بات۔ اور چاہئے کہ ڈریں جو (یتیموں کے سرپرست ہیں اور سچیں) کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے

ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے متعلق پس چاہئے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ

بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے وہ تو بس کھا رہے ہیں

فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۱۰ يُوصِيكُمُ اللَّهُ

اپنے بیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ

فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ خِطَّ الْأَنْثَىٰ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

تمہاری اولاد (کی میراث) کے بارے میں، ایک مرد (لڑکے) کا (حصہ) برابر ہے دو عورتوں (لڑکیوں) کے حصے کے، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

سے زائد تو ان کے لئے دو تہائی ہے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لئے

النِّصْفُ وَالْأَبْوَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

نصف ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّ

بشرطیکہ میت کی اولاد ہو، اور اگر نہ ہو اس کی اولاد اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا

الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

تیسرا حصہ ہے (باقی سب باپ کا)، اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے (اور یہ تقسیم)

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ

اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی اور فرض ادا کرنے کے بعد، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے

أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں، یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شک اللہ تعالیٰ (تمہاری مصلحتوں کی)

عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۱ ۚ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ

جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے۔ اور تمہارے لئے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں بشرطیکہ نہ

يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا

ہو ان کی اولاد، اور اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لئے چوتھائی ہے اس سے جو وہ

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينًا ۗ وَلَهُنَّ

چھوڑ جائیں (یہ تقسیم) اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں اور فرض ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑو بشرطیکہ نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر ہو تمہاری

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ

اولاد تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ (یہ تقسیم) اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے

تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً

جو تم نے کی ہو اور (تمہارا) قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے کلالہ

أَوْ امْرَأَةً ۖ وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

وہ مرد ہو یا عورت اور اس کا بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کے لئے ان میں سے چھٹا حصہ ہے ،

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ

اور اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں تہائی میں (یہ تقسیم)

بَعْدِ وَصِيَّهِ يُؤْتَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنْ

وصیت پوری کرنے کے بعد ہے جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد بشرطیکہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو ، (یہ نظام وارثت) حکم ہے

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ ۝۱۱

اللہ کی طرف سے ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے - یہ حدیں اللہ کی (مقرر کی ہوئی) ہیں ، اور جو شخص فرمانبرداری کرے گا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اللہ کی اور اس کے رسول کی داخل فرمائے گا سے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۲ وَمَنْ يَعْصِ

ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں ، اور یہی ہے بڑی کامیابی - اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی

وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اللہ کی (مقررہ) حدود سے داخل کرے گا اسے اللہ آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝۱۳ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ

عذاب ہے ذلیل کرنے والا - اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے

فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا

تو گواہ طلب کرو (تہمت لگانے والے سے) ان پر چار مرد اپنوں میں سے ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ

تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پورا کر دے ان (کی زندگی) کو موت یا

يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۱۵ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَهَا مِنْكُمْ قَاذِرُهُمْ

بنادے اللہ تعالیٰ ان (کی رہائی) کے لئے کوئی راستہ - اور جو مرد عورت ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو خوب اذیت دو انہیں ،

فَإِنْ تَابَا وَأُصْلِحَا فَاَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

پھر اگر دونوں توبہ کر لیں اور (اپنی) اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو انہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا

رَحِيمًا ۱۶ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ

بہت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کی توبہ ہے جو کر بیٹھے ہیں گناہ

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ

بے سمجھی سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے پس یہی لوگ ہیں (نظرِ رحمت سے) توجہ فرماتا ہے اللہ

عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۷ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ

ان پر ، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ، بڑی حکمت والا۔ اور نہیں یہ توبہ (جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے)

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

ان لوگوں کے لئے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں (ساری عمر)، یہاں تک کہ جب آجائے کسی ایک کو ان میں سے موت (تو)

قَالَ إِنِّي تُوبْتُ الْإِنِّ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۖ

کہے: بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں،

أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

انہیں کے لئے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب درد ناک - اے ایمان والو!

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

نہیں حلال تمہارے لئے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ

بِبَعْضِ مَا أَنْتُمْ مَوْحُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ

کچھ حصہ اس (مہر وغیرہ) کا جو تم نے دیا ہے انہیں بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا ،

وَعَاشَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ

اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عموگی سے، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں (تو صبر کرو) شاید

تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۱۹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں (تمہارے لئے) خیر کثیر - اور اگر تم ارادہ

7B

۱۳۸

اسْتَيْدَآلَ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ ۱۰ وَآتَيْتُمْ أَحَادَ مَهُنٍ قِنطَارًا

کرلو کہ بدلو ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال

فَلَا تَأْخُذْ وَآمِنْهُ شَيْئًا ۱۱ اِنَّا خُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَاِنَّآ مَبِيْنًا ۱۲

تو نہ لو اس مال سے کوئی چیز، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال (زمانہ جاہلیت کی طرح) بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے۔

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ وَّ

اور کیوں کر (واپس لیتے ہو) تم مال کو حالانکہ مل جل چکے ہو تم (تمہاری میں) ایک دوسرے سے۔ اور

اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّبْنًا قَاغِيْطًا ۱۳ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ

وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ - اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا

مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۱۴ اِنَّهُ كَانَ فَاْحِشَةً وَّ مَقْتًا ۱۵ وَّ

مگر جو ہو چکا (اس سے پہلے سو وہ معاف ہے)، بے شک یہ فعل بہت بے حیائی اور نفرت کا فعل تھا، اور

سَاءَ سَبِيْلًا ۱۶ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَا

بہت برا طریقہ تھا۔ حرام کردی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور

عَشْرَتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمْ

تمہاری چھو بھھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں

الَّتِي اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں رضاعت سے اور مائیں تمہاری بیویوں کی

وَرَبَايِبُكُمْ الَّتِي فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ

اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں (پرورش پاریں) ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت

بِرِهْنٍ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِرِهْنٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَّحَلٰلٌ لِّ

کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں)، اور (حرام کی گئیں) بیویاں

اَبْنَايِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۱۷ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

تمہارے ان بیٹیوں کی جو تمہاری پشتوں سے ہیں اور (یہ بھی حرام ہے) کہ جمع تم کرو دو بہنوں کو

اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۱۸ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۱۹

مگر جو گزر چکا (سو وہ معاف ہے)، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے،